

## 41. FUSHSHILAT (GI TENRANG)

Suet ke-41: 54 ayat

Ngen sembut gen Allah De Maho  
Pengasiak, Maho Penyayang.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Haa miim.

حَمِّ

2. Gi tenuun kunei Tuhan gi maha pemurah  
magea maha penyayang.

تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

3. Kitab gi temang ayat-ayat, adeba bacoaan  
lem bahaso arab untuk kaum gin amen.

كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ

4. Gi mbin berita semang ngan gi min  
pengineget, tapi, deu tobo o coa pedulei  
(kuncine) mako tobo o coa (lak)  
temngo.

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا

يَسْمَعُونَ

5. To bo o madeak:”atie keme ade nak lem  
tutup (gi tematap) jano yi keme madeak  
kame magene ngan nak tiuk keme ade  
teptis ngan antaro keme ngan ko ade ket,  
mako bekerjo ba ko; sebeneane keme  
bekerjo (kulo)”.

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي

ءَاذَانِنَا وَقَرْءٍ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْنَا

عَمَلُونَ

6. Nadeak ba: “hbahaso ne uku Cuma suang  
manusio awei nu, diwahyukan ngen udi  
cumin Tuhan kumu adeba Tuhan gik  
maha esa, mako tetaa nak dalen gik lu us  
menajoak ngen Ne gen minai baa pun gen  
Si gen celako lie ba untuk tun-tun gi  
mempersekutukan Nya.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ

إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ

لِّلْمُشْرِكِينَ

7. Do bat un-tun gik ngelesie zakat ngen  
tobo o kafir mai adene akhirat.

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ

كَافِرُونَ

8. Sesungguhne tun-tun gik beriman ngen  
beramal saleh tobo o dapet pahalo gik coa  
putus-putus ne.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ

غَيْرٌ مَّمْنُونٍ

9. Nadeak ba: “sesungguhnya patut udi kafir ngen gik menciptakan bumei lem due maso negen udi ade sekutu-sekutu bageak ne? gik sifet ne demikian do o ba Tuhan pencipta alam.
- ﴿ قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أُنْدَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾
10. Si ciptakan nak bumei o tebo-tebo gik kuet nak das ne, si memberkati ngen si menetep ngen udi upan utuk ne lem pat maso bagei tun-tun gik bertanye.
- ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ﴾
11. Sudo o si aleu ngen meneai lenget ngen lenget do maseak berupo asepe, su do o si nadeak ngen udi gen bemei:”teko kedue ne menurut priteak Ku ngen senang hatie atau nterpakso”kedue ne menjawab: keme teko ngen riang hatie
- ﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾
12. Mako si njije tojoak lenget lem due maso. Si temuun ngen tiep-tiep lenget urusan ne ngen kjeme hias lenget gik paak ngen bintang-bintang gik teang ngen kem semido ngen sebaik baik ne. do oba ketenuan gik maha kuet igai maho namen.
- ﴿ فَقَضَيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۗ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظًا ۗ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾
13. Jiko tobo o berpaling mako nadeak ba:”uku sudi madeak udi ngen semitoa, awie semito gik tempo kaum Add gen Tsamud.
- ﴿ فَإِنِ اعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾
14. Ketiko tobo Rasul teko ngen tobo o kunei muko gen kak belakang to bo o (ngen mgajak) “jibeak ba udi nyembeak seleyen Allah”. Tobo o njawab “amen kelak tuhan keme pasti so akan temuun malaikat-malaikat Ne, mako sesungguhnya keme tun kafir gen wahyu gik kumu nutus mbin ne.
- ﴿ إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۗ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾
15. Adepun kaum Adad mako tobo o ombong awak nak muko bumei coa ade alas an gik benea gen madeak:”api gik lebeak kuet kunei keme?” gen jano tobo o
- ﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۗ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ

- coa dapet kemeleak bahwo Allah gik menei tobo o adeba lebeak lei kekuatane kunei tobo o? ben adeba tobo o mengingkari tando-tando keme.
- الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِعَايُنِنَا  
تَجَحَّدُونَ ﴿١٥﴾
16. Mako keme temiup angina gik lei ngen tobo o lem kedeu bilei gik sial keme lak meding ngen tobo o do o ba sikso gik hino lem idup nak dunio gen sesungguhne sikso skhirat lebeak hino tapi tobo o coa nageak temulung.
- فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ  
لِنُنذِرَهُمْ عَذَابَ الْحَزَنِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ  
وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَحْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾
17. Gen adepun kaum Tsamud, mako tobo o sudo keme nageak petunjuk tapi tobo o lebeak lak buto (kesesatan) kunei petunjuk. Mako tobo o senabeai penitoea sikso gik himo sembah jano gik sudo tobo o kenerjo.
- وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَىٰ  
أَهْدَىٰ فَأَخَذْتَهُمْ صَاعِقَةً الْعَذَابِ آهُونَ بِمَا  
كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾
18. Gen keme semelamat tun-tun gik berimen gent obo o adepun tun-tun gik bertaqwa.
- وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾
19. Gen ingetba ketiko bilei ketiko mosoak-mosoak Allah niing may lem nerako, sudo o tobo o kenopoa ketene.
- وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾
20. Sehingga tobo o sapie may nerako, mako, tiuk, matei, kak tobo o jijej saksei terhadap tobo o jano gik sudo tobo o kenerjo.
- حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ  
وَأَبْصَرُهُمْ وَقُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾
21. Gen tobo o nadeak gen kak ne:” gentei kumu jijej saksei terhadap keme?” kak tobo o jemaweb “Allah gik jemijej kete sesuatu pitar nadeak sudo jimjei keme pitar (pulo) nadeak, gen sib a gik cemipto kumu sejak pertama gen Sib a kumu nelek.
- وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا  
أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ  
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾
22. Kumu debat-debat coa nam nyuuk kunei kesaksian tiuk, matei, gen kak nu, bahkan kumu kemirjo bahwa Allah coa deu namen kunie udi gik kemerjo.
- وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَشِيرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا  
أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا

<p>23. Gen gik do o ba asegi gik udi sako ngen tuhan nu, si sudo mojoa kumu, mako jijeiba kumu termasuk tun-tun gik merugei.</p>	<p>يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾          وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَأْتُمْ          فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٢﴾</p>
<p>24. Jiko tobo o sebea (nderito azab) mako nerakoba penam diem tobo o gen jiko tobo o madeak alas an-alasan, mako coa bat obo o termasuk gik tun-tun menerimo alas an ne.</p>	<p>فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى هُمْ وَإِنْ يُسْتَعْتَبُوا          فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿١٣﴾</p>
<p>25. Gen keme temetep bageak tobo o kuat-kuat gik jemijei tobo o kemeleak baes jano gik ade nak adep ngen nak belakang tobo o gen tetep ba tobo o keputusan aseba bageak umat-umat gik ndate sebelum tobo o kenei jinngen manusio, sesungguhne tobo o adeba tun-tun merugai.</p>	<p>﴿١٤﴾ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ          وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ          مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٥﴾</p>
<p>26. Gen tun-tun kafir nadeak: “jibeak ba kumu temingoa ngen sungguh-sungguh jano Al Quran yo gen nei ba hiruk pikuk teradepne, supayo kumu nam kemleak tobo o”.</p>	<p>وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ          وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿١٦﴾</p>
<p>27. Mako sesungguhnya keme akan merasokan azab gi telo kunei tun-tun kafir ngen keme kam melei bales ngen tobo o ngen kidek-kidek pembalesan bagei jano gik sudo tobo o kemerjo.</p>	<p>فَلَنذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ          أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾</p>
<p>28. Do oba bales ngen musoak-musoak Tuhan/Allah (yaitu) nerako: tobo o dapet penan diem, gik selamone nak lem ne sebagaei bales atas keingkaran tobo o adep ayat-ayat keme.</p>	<p>ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ هُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ          ﴿١٨﴾ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٩﴾</p>
<p>29. Ngen tun-tun kafir madeak: ya robb keme kemleak ngen keme duei mecem tun gik sudo menyesatkan keme (yaitu) setengeak kenuai jin ngen manusio mako</p>	<p>وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا          مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَجَعَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا</p>

<p>keme meletok kedue nak beak telapok kekea supayo kedue mecem do jije nak tun-tun hino.</p>	<p>مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿١١﴾</p>
<p>30. Sesungguhne tun-tun ngen madeak: “Tuhan keme do oba Allah” sudo o tobo o temnguak atie si, mako malaikat tu un ngen tobo o miling jibeak ba udi saben ngen jibeak ba meras selen ngen senang ba udi ngen surgo. Gik sudo jenanjeai Allah ngen udi.</p>	<p>إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٢﴾</p>
<p>31. Keme penjago-penjago udi nak lem kehidupan dunio ngen akhirat. Nak lem ne udi dapet jano gik udi kelok ne ngen udi dapet pulo nak lemne jano gik udi minoi.</p>	<p>لَنْ أُولِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿١٣﴾</p>
<p>32. Sebagai hidangan tuk udi kunei Tuhan gik maha pengapun igei maha penyayang.</p>	<p>نُزُلًا مِّنْ غُفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿١٤﴾</p>
<p>33. Api gik lebeak baik kecekne kunie tun gik semayo ngen Allah, kemerjo amal gik saleh, miling gik beneai sesungguhne uku termasuk tun-tun gik menyereak dirai.</p>	<p>وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾</p>
<p>34. Ngen coa ba samo kebaikne ngen kejahatanne tenolokba kejahatan o ngen cao gik lebeak padek mako tibo-tibo tun gik antaro nu ngen antaro si ade musuak awei-awei jije kuat gik paling setio.</p>	<p>وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿١٦﴾</p>
<p>35. Sifet-sifet gik baik do o coa de anugerahne seluyen ngen tun-tun gik sabar ngen coa dianugrahkan meluyen ngen tun-tun gik ade utung gik lei.</p>	<p>وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿١٧﴾</p>
<p>36. Ngen jiko smat gemanggau ngen sewaktew ganggao, mako mohonba pelinung ngen Allah sesungguhne si o gik maho temiuk ngen maho namen.</p>	<p>وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٨﴾</p>
<p>37. Nak antaro tando-tando kekuasaan do ba kelmen kebilei, matei bilei ngen bulen jibeak ba sembeak matei bilei atau bulen, tapi sembeakba Allah gik mencipta jiko</p>	<p>وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي</p>

<p>do o ba mako udi lak sembeak.</p>	<p>خَلَقَهُمْ ۖ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾</p>
<p>38. Jiko tobo o semombong awok, mako to bo o malaikat gik dapeak Tuhan nu bertasbih ngen si nak kelmen ngen nak kebilai sedangkan tobo o coa jeo-jeo.</p>	<p>فَإِنَّ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾</p>
<p>39. Ngen antaro ne do oba baho ko kemleak dunio keing ngen gersang. Mako apobilo keme temuun bioa kunei das ne niscayo ngen subur sesungguhne Tuhan gik midup ne pastiba dapet idup gik matei sesungguhne si maha kuaso atas kete sesuatu ne.</p>	<p>وَمَنْ أَيْتَبَهُ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَشِيعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾</p>
<p>40. Sesungguhne tun-tun gik mengike ayat-ayat keme, tobo o coa bunyin kunei keme mako janoba tun-tun gik nelukne nak lem nerako lebiak padek janoba tun-tun gik teko ngen aman sentosa pado bilei kiamat? Menea ba jano udi lok sesungguhne si o maho kemleak jano gik udi kemerjo.</p>	<p>إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۗ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾</p>
<p>41. Sesungguhne tun-tun gik mengike Al Quran ketiko Al Quran do o teko ngen tobo o pasti akan celako ngen sesungguhne Al Quran do o ba kiteb gik mulya.</p>	<p>إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۗ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾</p>
<p>42. Gik coa teko gen ko (Al Quran) kebatilan padeak kunei muko atau kenuei belakang ne gik tenuuk kuneio robb gik maho bijaksana ngen maho terpujei.</p>	<p>لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾</p>
<p>43. Coa ba de gik nadeak oleh tun-tun kafir ngen ko seluyen jano gik sesungguhne de sudo so madeak ngen rasul-rasul sesudoh udi. Sesungguhne Robb nu benei-benei ade ampunan ngen hukuman gik pelgeak.</p>	<p>مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾</p>
<p>44. Ngen jiko keme jemejie Al Quran do o suatu bacoan nak lem bahsao seluyen arab, do paset tobo o madeak gen ne coa menei ayat-ayat ne janoba patuat Al</p>	<p>وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ ءَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا</p>

Quran nak lem, bahaso luyen sedang rasul adeba tun arab? Nadeakba Al Quran do o ba penujuk ngen penawai tun-tun mukmin ngen tun-tun gik coa beriman ngen tiuk tobo o ade sumatan atau ngen gik uak.

هُدًى وَشَفَاءً<sup>ط</sup> وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي  
ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى<sup>ج</sup> أُولَٰئِكَ  
يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾

45. Sesungguhne sudo keme melei ngen Musa taurat sudo o diselisiak tentang taurat o amen coa keputusan gik sudogik bdete kunei rab nu tentuba tun-tun kafir sudo di tenrus ngen sesungguhne tobo o terhadap Al Quran benai ragau gik mbingung.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَآخْتَلَفَ فِيهِ<sup>ط</sup> وَلَوْلَا  
كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ<sup>ج</sup> وَإِنَّهُمْ  
لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٥﴾

46. Barang api gik kemerjo amal saleh mako pahalane tuk sib a suang ngen apisi kemerjo lakeu gik kidek, mako dusone utuk neba suang, ngen debat-debat coa ba rabb nu menyikso hamba-hamba Ne.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ<sup>ط</sup> وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا<sup>ط</sup>  
وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾